



محضر مسنون دعائیں

انتخاب
اسامہ مراد

مناجات مقبول

مولانا اشرف علی تھانوی
ترجمہ
عبدالماجد دریابادی

قیمت: - 3/- روپے

مذکورات

کوڈ نمبر: 04111

منصورہ، ملتان روڈ، لاہور، پاکستان، فون: 5434909-5425356، فکس: 042-5432194

ڈعا کیا ہے؟ دل کی گہرائیوں میں اٹھنے والی پیاس اور حاجت کی صد اجوز بان پر لفظ میں آنسو بن جاتی ہے۔ دل سے نکلتی ہے، دل میں اترتی ہے۔ زبان سے نکلتی ہے، دل کی صدابن جاتی ہے۔ تعلیم و تاثیر اور جذب و شوق کے حضول کا کوئی نہ ڈعا سے زیادہ موثر نہیں۔

ڈعا کے لیے ان الفاظ سے بہتر الفاظ کون سے ہو سکتے ہیں جن کی تعلیم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ان ڈعاؤں میں اتنی حرارت، اتنا وفور شوق اور اتنی محتاجی اور عاجزی، اتنی الماح و زاری ہے کہ دل پھسل کرایک نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ ان میں ایسے مطالب و مدد عازمگی کا مدعابن جاتے ہیں کہ ان سے بہتر مطلب و مدد عازمیاں ہمارا ہوں گی۔

ان دعاؤں کے بہت سے مجموعے ہیں، یہ حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مولانا اشرف علی تھانویؒ کی دعاؤں پر مشتمل
ایک کتاب مُناجاتِ مقبول ہے۔ اس کا
ترجمہ مولانا عبدالجاد ریاضادیؒ نے کیا ہے۔
اس کے مطالعے کا موقع ملا۔ اس میں سے
کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں بہت اچھی لگیں،
پیش خدمت ہیں۔ ان کا یاد کرنا اور یاد رکھنا
اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا
آسان ہے۔

یہ اپنے الفاظ اور مضمون میں بہت تاثیر کی
حامل ہیں۔

۱

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرًا مَمَّا نَقُولُ.

”اے اللہ! تیرے واسطے سب تعریف ہے جیسی کہ تو خود فرماتا ہے اور اس سے
کہیں بڑھ کر جو ہم بیان کرتے ہیں۔“ - (عن علیؑ)

۲

اللَّهُمَّ وَفَقْنِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضِي مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ
وَالْفِعْلِ وَالنِّيَّةِ وَالْهُدَى إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

”اے اللہ مجھے اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے، اچھا سمجھئے، خواہ وہ قول ہو
یا عمل یا فعل یا نیت یا طریقہ بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔“ - (عن ابن عمرؓ)

۳

اللَّهُمَّ أَعِنْنِي بِالْعِلْمِ وَرَيَّنِي بِالْحِلْمِ وَأَكْرِمْنِي بِالْقُوَى
وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ،

”اے اللہ میری مدد کر علم دے کر اور مجھے آراستہ کرو قارہ دے کر اور مجھے بزرگی
دے تقویٰ سے اور مجھے جمال دے امن و مہین دے کر۔“ (عن ابن عمرؓ)

۴

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا إِسْتَبْشِرُوا وَإِذَا
أَسَاءُوا وَإِسْتَغْفِرُوا.

”اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کروے جو جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو
خوش ہوتے ہیں اور جب کوئی برائی کرتے ہیں تو مغفرت چاہنے لگتے ہیں۔“

(عن عائشہؓ)

۵

اللَّهُمَّ خِرُّلِي وَاخْتَرُلِي.

”اے اللہ تو ہی میرے لیے (چیزوں کو) چھانٹ لے اور پسند کر لے۔“
(عن ابو بکر صدیقؓ)

۱

اللَّهُمَّ أَحِينِي مُسْكِنًا وَامْتُنِي مُسْكِنًا وَاحْشُرْنِي فِي
زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ،

”اے اللہ مجھے خاکسار بنا کر زندہ رکھ اور خاکساری ہی کی حالت میں موت لا
اور خاکساروں ہی میں مجھے آٹھا۔“ (عن ابن عمرؓ)

۲

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فُجُّهَةِ الْخَيْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
فُجُّهَةِ الشَّرِّ.

”اے اللہ میں تھو سے مانگتا ہوں غیر متوقع بھلانی اور تیری پناہ چاہتا ہوں
ناگہانی برائی سے۔“ (عن انسؓ)

۳

اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامَعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ
وَطَاعَةَ رَسُولِكَ وَعَمَلاً بِكِتَابِكَ.

”اے اللہ میرے دل کے کان اپنے ذکر کے لیے کھول دے اور مجھے نصیب کر
اپنی فرماں برداری اور اپنے رسولؓ کی فرماں برداری اور اپنی کتاب پر عمل۔“

(عن علیؓ)

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ قُلُوبًا أَوَابَةً مُّنِيبَةً فِي سَبِيلِكَ

”اے اللہ ہم تجھ سے ایسے دل مانگتے ہیں جو تیری راہ میں بہت تاثر قبول کرنے والے بہت عاجزی کرنے والے اور بہت رجوع کرنے والے ہوں۔“

(عن ابن مسعود)

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْفِنِنِي
بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِواكَ

”اے اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام روزی سے بچالے اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دے۔“ (عن علی)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلاً
مُتَقَبِّلاً

”اے اللہ میں تجھ سے پاکیزہ رزق، کارآمد علم اور مقبول عمل طلب کرتا ہوں۔“

(عن أم سلمة)

(۱۲)

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

”اے اللہ! جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا مجھے اپنے عذاب سے پچا
دینا۔“ (عن حصہ)

(۱۳)

يَا حَمْدُ يَاقِيُومٌ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغْفِرُكَ أَصْلِحُ لِي شَأْنِي كُلَّهُ
وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

”اے حی! اے قیوم! تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے
سارے حالات کو درست کر دے اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس
کے حوالے نہ کر۔“ (عن انس)

(۱۴)

اللَّهُمَّ أَخْسَنْتُ خَلْقِي فَاحْسِنْ خُلُقِي وَأَذْبِرْ غَيْظَ
قَلْبِي وَأَجْرِنِي مِنْ مُضَالَاتِ الْفِتْنَ مَا أَحْيَيْتَنَا

”اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے پس میری سیرت بھی اچھی کر دے
اور میرے دل کی کھولن (غضہ) ڈور کر دے اور جب تک زندہ رکھے گمراہ
کرنے والے فتنوں سے مجھے پچائے رکھ۔“ (عن ام سلمہ)

١٥

اللَّهُمَّ لِقَنِي حُجَّةَ الْإِيمَانِ عِنْدَ الْمَمَاتِ

”اے اللہ موت کے وقت مجھے جب ایمان کی تلقین فرمادے۔“ (عن عائشہ)

١٦

اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُضْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهْنِنَا وَأَعْطِنَا وَلَا
تَحْرِمْنَا وَأَثْرِنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَأَرْضَ عَنَّا

”اے اللہ تم میں اضافہ کرو اور کی نہ کرو، ہمیں عزت و آبرودے اور خوارند کرو۔
ہمیں عطا فرماؤ مرعوم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر بالارکھ اور دوسروں کو ہم پر موثر
نہ بنا اور ہمیں خوش رکھ اور ہم سے خوش رہ۔“ (عن ابن عمر)

١٧

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَإِرْحَمْنِي وَالْحَقِّنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى

”اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر حرم فرماؤ مجھے رفیقِ اعلیٰ کے ساتھ جا للا۔“ (عن عائشہ)

١٨

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْإِمَانَةَ وَالْحُسْنَى
الْخُلُقَ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ

”اے اللہ میں تھھ سے درخواست کرتا ہوں تدرستی کی، پاک بازی کی، امانت کی،
حسن علق کی اور تقدیر پر راضی رہنے کی۔“ (عن ابن عمر)

اللَّهُمَّ افْتُحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ لَنَا أَبْوَابَ رِزْقِكَ
 ”اے اللہ ہم پر رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنے رزق کے دروازے
 ہمارے لیے آسان کرو۔“ (عن ابی حمید)

اللَّهُمَّ اغْصِنْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ
 ”اے اللہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھ۔“ (عن ابی ہریرہ)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَإِذَا نَسِيْ وَأَرْزِقْنِي وَعَافِنِي وَإِذَا نَسِيْ لِمَا
 اخْتَلَفَ فِيهِ سِنِ الْحَقِّ بِأَذْنِكَ
 ”اے اللہ! مجھے بخشن دے مجھے ہدایت دے مجھے رزق دے مجھے عافیت دے
 جس چیز کے حق ہوتے میں اختلاف ہواں میں مجھے راو صواب دکھا
 دے۔“ (عن عائشہ)

اللَّهُمَّ اجْعِلْ أَوَّلَ بَدْنَ النَّهَارِ صَلَاحًا وَأُوْسَطَهُ فَلَاحًا، وَآخِرَةَ
نَجَاحًا أَسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ

”اے اللہ میرے آج کے دن کے اول حصے کو بہتر، درمیانی حصے کو باعیف فلاج
اور آخری حصے کو باعیف کامیابی بناوے۔ اے سب مہربانوں سے بڑھ کر
مہربان میں تجوہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہوں۔“

(عن عبد الرحمن بن أبي عوف)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا دَائِمًا وَبُدْئِي قَيِّمًا وَعِلْمًا نَافِعًا
”اے اللہ میں تجوہ سے ایمان وائم پڑائیت مکرم اور علم نافع کا طلب گار
ہوں۔“ (عن ابن عثیمین)

اللَّهُمَّ أَحْسِنْنِي مُسْلِمًا وَامْتَنِنْيَ مُسْلِمًا

”اے اللہ مجھے مسلمان ہی زندہ رکھ اور مسلمان ہی (رکھ کر) وفات دئے۔
(عن مروہ)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي
 ”اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت دے اور میرے رزق
 میں برکت دے۔“ (عن ابی موی اشعری)

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقَكَ عَلَىٰ عِنْدِكِ بِرِّ سَنَّىٰ
 وَانْقِطَاعَ عُمُرِي

”اے اللہ میرے بڑھاپے میں اور عمر کے ختم ہونے کے وقت میرے لیے اپنا
 رزق خوب فراخ کر دینا۔“ (عن عائشہ)

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِي أُخْرَةً وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِيمَةً
 وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ الْقَاْكَ فِيهِ

”اے اللہ میری عمر کا بہترین حصہ اس کا آخری حصہ کرنا اور میرا بہترین عمل میرا
 آخری عمل کرنا اور میرا بہترین دن تجھ سے ملاقات والا دن ہو۔“ (عن انس)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ
وَنَجِنَا مِنَ النَّارِ وَاصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ،

”اے اللہ ہمیں بخش دئے ہم پر رحم کرو ہم سے راضی ہو جا ہمیں بہشت میں
 داخل کرو ہمیں دوزخ سے بچا دے اور ہمارے سب حالات درست کر
 دے۔“ (عن أبي امامہ)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا
أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي

”اے اللہ بخش دے میری خطاء میری نادانی اور اپنے کاموں میں میری زیادتی
 اور وہ بھی جو مجھ سے بڑھ کر تو خود جانتا ہے۔“ (عن ابو موسیٰ اشعریؑ)

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ
عَلَانِيَتِي صَالِحةً

”اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے اور میرے ظاہر کو صالح
 بنادے۔“ (عن ابن عمرؓ)

۲۱

اللَّهُمَّ اتِّنْفُسِي تَقْوَاهَا وَرَزِّكَهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَزَّكَهَا
أَنْتَ وَلِيَّهَا وَمَوْلَاهَا

”اے اللہ! میرے نفس کو اس کی پر ہیزگاری عطا کرو اور اسے پاک کر دے تو یہ
اس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے اور تو یہ اس کا مالک اور آقا
ہے۔“ (عن زید بن ارمٰ)

۲۲

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدًى وَالتُّقْوَى وَالْعَفَافَ وَالغُنْيَ

”اے اللہ! میں تمھے ہدایت پر ہیزگاری پار سائی اور سیر چشمی مانگتا ہوں۔

(عن عبد اللہ بن عمر و بن العاص)

۲۳

اللَّهُمَّ ابْدِنِي وَسَدِّدْنِي

”اے اللہ! مجھے ہدایت دے اور مجھے استوار رکھو“ (عن علی)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَثُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا
أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي

”اے اللہ! مجھے بخش دے جو کچھ میں نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا اور جو کچھ میں
نے پوشیدہ کیا اور کچھ علانیہ کیا اور اس کو بھی جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ (عن ابن عزیر)

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنْهُ
الْمَاءِ الْبَارِدِ

”اے اللہ! اپنی محبت مجھے پیاری کر دے، میری جان سے اور میرے گھروالوں
سے اور خشنڈے پانی سے بھی بڑھ کر۔ (عن ابی الدرداء و عن معاذ)

يَا مُقْلِبَ الْقُلُوبِ ثِبْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

”اے دلوں کو پلنے والے میرا دل اپنے دین پر مصبوط رکھ۔“ (عن انس)

اللَّهُمَّ أَعِنَا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

”اے اللہ! اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنی اچھی سے اچھی عبادت کے باب
میں ہماری مدد فرمائے،“ (عن معاذ و عن ابی ہریرہ)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شَكُورًا وَاجْعَلْنِي فِي
عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا

”اے اللہ! مجھے بڑا صبر کرنے والا اور بڑا شکر ادا کرنے والا ہنا دے اور مجھے
اپنی نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا ہنا دئے۔ (عن بریدہ)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ
الرَّحِيمُ

”اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور میری توبہ قبول کر بے شک تو ہی بڑا
توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ (عن امین عمر)

اللَّهُمَّ اغْطِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيلَةَ وَاجْعَلْ فِي الْمُصْطَفَى فِينَ
مَحَبَّتَهُ وَفِي الْأَعْلَيْنَ دَرَجَتَهُ وَفِي الْمُقَرَّبَيْنَ ذِكْرَهُ

”اے اللہ، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مقام وسیلہ عطا فرمائے آپ کو برگزیدہ
لوگوں کا محبوب ہنا دے، آپ کا مرتبہ عالی مقام لوگوں میں کر دے اور آپ کا
ذکر اہلی تقرب میں ہو۔ (عن ابی امامہ)